

ت = 2.10 گھنٹے

کل نمبر = 60

(ج) کلاس (12010)

حصہ نشانیہ

نوٹ: حصادوں میں سے کوئی سے اخبار (18) سوالات میں صورت میں سے کوئی عنوان سوالات حل کریں

حصاد

18 x 2 = 36

سچانہ دل میں سے کوئی سے اخبار (18) سوالات کے تصریح بیانات جو کچھ

(I) اگر A اور B دوست ہوں تو ذی مارگن کے آتوں کی دلوں صورت میں لکھیے

(II) پوریست کی تحریف کریں اور حل دیجیے

(III) (2,3) اور (2,3) میں کیا فرق ہے

$$\sqrt{(-xyz)^4} \quad \text{تحریکیے} \quad (IV)$$

$$\{(x+y)^0\}^5 \quad \text{تحریکیے} \quad (V)$$

$$\left(\frac{25}{16}\right)^{-1/2} \quad \text{تحریکیے} \quad (VI)$$

$$8.24 \times 10^{-4} \quad \text{ماہر گم شنس لکھیے} \quad (VII)$$

راکورڈ کی تحریف کریے

$$\log_x 729 = 2 \quad x \quad (\text{ix})$$

کس جملہ کی تحریف کریے

$$x = 2 \quad x^3 + y^3 - 3xy \quad (\text{x})$$

$$(2a + 2b)(2a - 2b)(4a^2 + 4b^2) \quad \text{کلیکی مدد سے ماملہ خوب سطح مکھیے} \quad (\text{xii})$$

$$ac + bc \div ad + bd \quad \text{تحریکیے} \quad (\text{xiii})$$

$$z^4 - z^2 + 16 \quad \text{تحریکیے} \quad (\text{xiv})$$

$$1 - 64 u^3 \quad \text{تحریکیے} \quad (\text{xv})$$

ماہر گم سطح کرنے کے طریقوں کے نام لکھیں

$$ab(x^2 + 1) + x(a^2 + b^2) \quad \text{تحریکیے} \quad (\text{xvi})$$

$$(a + b)^3 , a^2 + 2ab + b^2 \quad \text{ماہر گم پذیریہ تحریف سطح مکھیے} \quad (\text{xviii})$$

قادری قابل سے کیا مراد ہے۔ حل دیجیے

$$x + \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix} \quad x \quad \text{کی قیمت سطح مکھیے} \quad (\text{xx})$$

$$2a - 4 \\ -1 \quad \text{اگر } A = \begin{bmatrix} 2a & -4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \quad a \quad \text{کی قیمت سطح مکھیے} \quad (\text{xxi})$$

... ہم خانقاہ ... کی تحریف کریے

زادی کی تحریف کریے

ٹٹٹ کو طلبے سے کیا مراد ہے؟

ساری الاحاطہ ٹٹٹ کا ہر زادی کے درجے کا ہے؟

AB = 3 Cm , BC = 4.5 Cm , CA = 6 Cm $\triangle ABC$ نامیں جس میں

زادی کے نامنہ کی تحریف کریے

حدود

نوٹ: اس حصے سے کل سے تین والیں حل کریں

3 x 8 = 24

س (الف) ای مرگن کے وہ نام کی چال کریے اور $U = N , A = \phi , B = P$

(ب) تحریکیے

$$\frac{\sqrt{a+2} - \sqrt{a-2}}{\sqrt{a+2} + \sqrt{a-2}}$$

$$\frac{8 - \frac{1}{3}}{3 \sqrt{22}}$$

راکورڈ کی مدد سے قیمت سطح مکھیے

$$x - y = 5 , xy = 24 \quad x + y \quad \text{کی قیمت سطح مکھیے جو}$$

س (الف) تحریکیے

$$\frac{1}{x-y} + \frac{1}{x+y} + \frac{2x}{x^2+y^2} + \frac{4x^3}{x^4+y^4} \quad \text{تحریکیے} \quad (b)$$

$$x - y = 7 \quad \text{کلیون کی مدد سے حل کریے}$$

$$x + y = 11$$

m $\angle X = 60^\circ$, m $\angle Y = 45^\circ$, XY = 6.3 Cm $\triangle XYZ$ کے وسطیے کچھ جس میں

ہات کچھ کر : اگر کسی ٹٹٹ کے وادھاں ہم حاصل ہوں اس احاطے کے وادھاں زادی کی حاصل ہوئے